



سوال

(434) دیارِ حبیب جانے کی دعا کرنا کیسا ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعض حضرات دعاء میں یہ الفاظ لکھتے ہیں: ”اے خدا مجھے دیارِ حبیب جانے کی توفیق عطا فرما۔“ اس سلسلہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمادیں۔ کیا اس کا تعلق نیت سے ہے۔ (صفدر حسین سوڈیوال۔ لاہور)

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ظاہر ہے کہ ایک مومن مسلمان کا اس دعاء سے مقصود اور مطلق نظر، حج، عمرہ، بیت اللہ اور مسجد نبوی میں عبادت کی لذتوں سے محفوظ ہونا ہی ہوگا۔ مسجد نبوی کے بالتبع اگر روضہ اطہر کی زیارت کی نیت بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ مستقلاً بالارادة صرف اس کے لیے رخت سفر باندھنا غیر درست فعل ہے۔ حدیث میں ہے:

لَا تَشُدُّوا الرِّجَالَ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَنْقَاصِيِّ - (متفق علیہ، صحیح البخاری، باب حج النساء، رقم: ۱۸۶۳، صحیح مسلم، باب سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ، رقم: ۳۱۵ (۸۲۷)۔ بحوالہ مشکوٰۃ مع المرعاة، ج: ۱، ص: ۳۵۳)

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

فتاویٰ حاقظ ثناء اللہ مدنی

جلد: 3، کتاب الصوم: صفحہ: 341

محدث فتویٰ